

مسلمان اور تنظیمِ وقت

محمد بشیر جمعہ

تنظیمِ وقت (Time Management) ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس کی بنیاد آپ کی اپنی ذات ہے۔ جب تک آپ اپنی ذات کی بہتری اور اصلاح نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ اپنے میرا وقت کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ لہذا اپنی ذات کی تنظیم، بہتری، ترقی اور اخلاق اور کردار میں بڑھوڑی کی کوشش آپ کی تنظیمِ وقت کی صلاحیت کو بخرا دے گی۔

تنظیمِ وقت کے حوالے سے پانچ مرحلے ترتیب دیے گئے ہیں۔ ان مرحلے کے ذیلی ہے بھی ہیں۔ اپنی تربیت، تزکیہ، ترقی، اپنی ذات کی ترتیب اور اپنی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ان نکات پر غور کیجیے۔

پہلا مرحلہ: شخصیت کا جائزہ

■ اپنے آپ کو پہچانئے

- تہائی میں بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں۔ خالق سے رابطہ قائم کریں اور سوچیں کہ اس نے مٹی کے اس پتھے میں روح کے ساتھ کتنی نعمتیں، صلاحیتیں اور کتنے رشتے پیدا کیے۔
- مالک کی دی ہوئی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتیں، البتہ اپنے تصور میں لانے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔

■ اپنی شناخت کو ضبط تحریر میں لاتیں

- احساس کیجیے کہ آپ کیا تھے، کیا ہیں اور مالک کی نعمتوں کا یہی سلسلہ رہا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے۔
- ہفتے میں ایک دن ضرور تہائی میں اپنے آپ سے ملاقات کیجیے اور اس ملاقات کے نوٹس لیجیے۔

- اپنی ذات کو وقت دیجئے اور اس سے باقاعدگی سے ملاقات کیجئے۔ یہ ذات آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے عموماً آپ سے دور اور محروم رہتی ہے۔

□ اپنے مشتبہ اور منفی معاملات کو دیکھیں

- آپ یقیناً اس دنیا کے کروڑوں افراد سے بہتر ہیں اور کروڑوں افراد آپ سے بہتر ہیں۔ آپ اپنی کئی خامیوں کو محض کوشش سے دور کر سکتے ہیں۔
- ہر ہفتے، اپنی خامیوں کا جائزہ لیں اور انھیں کم کرنے کی کوشش کریں۔
- اس کام کے لیے اپنی نوٹ بک بنائیں اور اس کے لیے ایک پین یا بال پین بھی مختص کر لیں۔ یہ درحقیقت آپ کی ایک رازدار دستاویز ہے۔

□ جائزہ لیں کہ آپ اپنا وقت کہاں اور کیسے خرچ کرتے ہیں؟

- کم از کم ایک ماہ تک آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اپنے جانے کے اوقات کے مصرف کو ریکارڈ کریں اور ہر ہفتے کے ۱۵۶ گھنٹوں کا جائزہ لیں کہ وہ کس انداز سے خرچ ہوئے؟ کیا اس خرچ سے آپ کو، آپ کے خاندان کو یا آپ کے کاروبار کوئی فائدہ ہوا یا دنیا یا آخوندگی کے لحاظ سے کوئی بہتری ہوئی؟
- اس ایک ماہ کے جائزہ کے بعد کوشش کریں کہ غیرمفید کاموں کے مقابلے میں اپنے آپ کو مفید کاموں میں لگائیں۔

□ تنظیم وقت کے حوالے سے اپنی صلاحیتوں اور خامیوں کا جائزہ لیں

- اگر تالاب میں دو افراد کو دھکیل کر ان سے کہا جائے کہ وہ دونوں دوسرے کنارے پر پہنچنے کی کوشش کریں، تو دوسرے کنارے پر وہی پہنچ سکتا ہے جسے تالاب میں تینا آتا ہے اور جسے نہیں آتا وہ کسی اور منزل پہنچ جائے گا۔ تنظیم وقت ایک فن ہے، اسے سیکھنے کی کوشش کریں۔
- تنظیم وقت کی صلاحیت کی تربیت شروع کے دنوں میں مشکل ہوتی ہے، مگر مسلسل مشق کے نتیجے میں آپ بڑی بلندی پہنچ سکتے ہیں۔
- اس صلاحیت کے ذریعے آپ کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی شخصیت میں تاثیر،

آپ کے معاملات میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی معتدل اور آپ کی محنت نتیجہ خیز ہو جاتی ہے۔

□ اندر وونی اور بیرونی مسائل کا جائزہ لیں

- ہر انسان مسائل سے دوچار ہے۔ مگر تنظیم وقت اس گاڑی کی مندی ہے جسے لمبے سفر پر روانہ ہونا ہے اور اس سے پہلے گاڑی کی بہت ساری چیزوں کی چیکنگ کر لی جاتی ہے۔
- وہ مسائل جو آپ کی ذات سے وابستہ ہیں ان کا جائزہ لیجیے۔ ان مسائل کا بھی جائزہ لیجیے جو آپ کی ذات سے وابستہ نہیں ہیں مگر آپ کے لیے تکلیف وہ ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ یہ مسائل دفتری بھی ہو سکتے ہیں، کاروباری بھی، خاندانی بھی اور معاشرتی بھی اور صحت کے حوالے سے بھی۔

□ اپنی عادات کا جائزہ لیں

- وہ عمل جو آپ بغیر سوچ سمجھے کرنے لگتے ہیں کیوں کہ وہ آپ کی عادت بن چکا ہوتا ہے، یہ عادات عملاً آپ کے لیے اصول بن جاتی ہیں۔
- اپنی بری عادتوں کا جائزہ لیں۔ انھیں کم کرنے اور ختم کرنے کی منصوبہ بندی کریں اور پھر اس پر باقاعدگی سے عمل کریں تاکہ وہ مقررہ مدت میں ختم ہو جائیں۔ جس انداز سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اسی انداز سے ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والی عادتوں کا بھی علاج کیجیے۔

دوسری مرحلہ: نصب العین کا تعین

- زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے لمحات کا پیانا وقت ہے۔
- زندگی، نعمتوں کے استعمال اور ان سے وابستہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام ہے۔
- زندگی دنیا میں عمل اور آخرت میں بتانک کا نام ہے۔

□ زندگی کا نصب العین کیا ہونا چاہیے

- زندگی کا نصب ایسی خالق سے وابستگی اور اس کے دیے گئے ضابطہ حیات اور اس سے کیے ہوئے عہد پر عمل کرنا ہے۔

- اس کی بہترین مثال اللہ کے نبی ہیں اور ان کی سیرت کے تابع زندگی گزارنے کی کوشش، ہمارا نصبِ اعین ہونا چاہیے۔
- اس عہد کے اپنے آداب ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔
- احساس ذمہ داری اور آخرت میں جواب دہی کی تیاری ہمارا نصبِ اعین ہونا چاہیے۔
- اس نصبِ اعین کی خوبی یہ ہے کہ دنیا بھی بہتر ہو، آخرت اور دنیا کی درمیانی مدت (برزخ) بھی بہتر ہو، اور بالآخر آخرت بھی بہتر ہو۔

□ نصبِ اعین کرے متعین ہونے کے بعد زندگی پر اثرات

- مندرجہ بالا نصبِ اعین کے تعین کے بعد ہماری زندگی میں امید اور خوف کا معاملہ آتا ہے۔
- اس نصبِ اعین کے تعین کے بعد شخصیت میں ایک توازن، ترتیب، تنظیم، تہذیب اور توکل کے عناصر آجاتے ہیں۔
- متعینہ نصبِ اعین ہمارے اندر سچائی، ایمان داری، امانت، ایفائے عہد اور اپنی ذات کے ساتھ انصاف جیسے اخلاقی اوصاف کا مقتضی ہے۔
- عزت نفس، احترام انسانیت، اعتدال، معاملہ فہمی، عفو و درگزر، ضبط، غصہ، صبر و شکر۔ یہ اقدار ہماری ذات کے لیے مطلوب ہیں۔
- اس نصبِ اعین کے حصول کے لیے، آپ کو مقاصد یا اهداف متعین کرنے ہوں گے۔

تیرام رحلہ: حصولِ نصبِ اعین کرے لیے اهداف کا تعین

□ زادِ سفر کا جائزہ لیں اور بہتری کرے لیے بھی مقاصد مقرر کریں

- احساس ذمہ داری: یہ وہ بنیادی عنصر ہے جو ذرا یوں سیٹ پر بیٹھ کر آپ کی ذات میں ہونا چاہیے۔
- رویہ: یہ وہ عنصر ہے جو آپ کو مقبول بھی بنا سکتا ہے اور معتوب بھی۔ اس پر غور کرنے اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔
- عادات: یہ وہ افعال ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے قواعد اور اصول بن سکتے

ہیں۔ ان عادات کے ذریعے آپ کے سفر کی رفتار تیز اور منزل قریب ہو سکتی ہے۔

- صلاحیتیں اور قابلیتیں: یہ مطلوبہ صلاحیتیں ہیں جو آپ کی بقا، ترقی اور کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ ان صلاحیتوں میں غور و فکر سے لے کر اجتماعی کوششیں، تقسیم کار اور قیادت شامل ہیں۔ لیکن عمر اور ذمہ دار یوں کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔
- ٹکنالوجی: یہ صدی تیز رفتاری، غیر دیواری یا بغیر سرحدوں کی صدی ہے۔ ٹکنالوجی اس قدر ترقی کر گئی ہے کہ برسوں کے سفر اب لمحوں میں طے ہو رہے ہیں اور دنیا ایک لیپ ٹاپ یا موبائل فون میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔

□ درج ذیل میدانوں کے لیے مقاصدو منازل کا تعین کریں

- ذاتی زندگی کے لیے، تربیت اور صحت، ترقی اور کامیابی کے لیے۔
- تعلیمی زندگی، کیریر، رزقی حلal اور معاشی آسودگی کے لیے۔
- خاندان، والدین، بیوی پچے اور گھر یا زندگی کے لیے۔
- سماجی اور معاشرتی زندگی میں اپنی عزت نفس اور مقام کے لیے۔

چوتھا مرحلہ: ذات میں تبدیلی اور سیکھنے کا عمل

- اپنی سوچ اور انداز فکر کا جائزہ لیں، اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور اسے نصب اعین اور مقاصد زندگی سے ہم آہنگ بنائیں۔
- اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیں انھیں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ڈھالیں۔
- اپنے تعلقات کا جائزہ لیں اور نصب اعین اور مقاصد زندگی کے مطابق بنائیں۔
- اپنے اخلاق کو سنوار کر تمام میدانوں میں ہر دلعزیز بننے کی کوشش کریں۔
- اپنے معاملات کے حوالے سے قابل اعتماد بنیں کہ آپ پر بھروسہ کیا جاسکے۔
- اپنے آپ کو منظم کریں۔ اپنی ذات کو پھیلانے کے بجائے سینئنے کی کوشش کریں۔ اپنی بکھری ہوئی چیزوں اور معاملات کو مجتمع کریں اور پھر جائزہ لیں کہ کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری؟
- جو کام سرانجام دے رہے ہیں ان کا جائزہ لیں کہ کیا وہ کرنا ضروری ہیں اور ساتھ ساتھ

ایک ایسی فہرست بنائیں جس میں آپ طے کر لیں کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے۔

- تضییع اوقات اور سائل کو ترک کریں۔ اپنے اوقات کے ضائع ہونے کا خاص خیال رکھیں اور اپنی زندگی سے سستی، کامیابی اور ٹال مٹول کی عادت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔
- نصب لعین اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں۔ جو بھی کام کریں، اپنے ذہن میں اپنے نصب لعین کو پیش نظر رکھیں اور دیکھیں کیا یہ کام اپنے نصب لعین کے مطابق کر رہے ہیں۔
- روزانہ چند لمحات تہائی کے حاصل کیجیے اور اپنے آج کو گذشتہ کل سے بہتر بنائیں۔ اپنے آنے والے کل کو اپنے گزرے ہوئے آج سے بہتر بنانے کی تیاری اور کوشش کریں۔

پانچواں مرحلہ: عملی پیش رفت اور جائزہ ۵

□ ترجیحات کے مطابق منصوبہ بندی کریں

- ترجیحات کی درجہ بندی کر کے اپنے لیے عملی پروگرام بنائیں۔
- مقاصد، مطالب، منازل کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کریں۔
- کلینڈر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا واقعہ کا پابند بنائیے۔

□ فیصلہ کریں کہ اپنے مقاصد کے لیے کن معاملات سے دستبردار ہوں گے

- اپنے کاموں اور مقاصد کی فہرست بنانا ضروری ہے۔
- وسائل اور صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو چند مقاصد اور کاموں کو دوسرے کاموں کے مقابلے میں ترجیح دینا ہوگی، اور چند مقاصد اور کاموں سے دستبردار ہونا ہوگا۔

□ اپنے گزینے کے کاموں کا نام نیل بنائیں

- مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو ترتیب دیجیے۔
- یومیہ، گھنٹوں کے لحاظ سے نام نیل بنائیے اور اس کو نام نیل میں مر بوٹ کیجیے۔

□ کاموں کے لیے وقت اور وسائل کا تعین کیجیے

- مقاصد سے گلن کے لیے اپنے کاموں کے لیے وسائل مہیا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔

● کام، وسائل اور معینہ اور مقررہ وقت کی سختی سے پابندی کیجیے۔

□ یومیہ امور کی فہرست بنائیں اور اس پر باقاعدگی سے عمل کریں

● روزانہ رات سونے سے قبل، اگلے روز کرنے کے کاموں کی فہرست تیار کر لیں۔ اپنے کاموں کی ترجیحات بنالیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے ترتیب کے نمبر بھی ڈال دیں۔

□ افراد کے ساتھ کام کرنے کے لیے اجتماعی جدو جہد کافن سیکھیے

● افراد کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔

● افراد کی تربیت کر کے ان کی ایک مؤثر ٹیم بنانے کی کوشش کیجیے۔

● تربیت کے بعد ٹیم کو کام بھی سکھائیں۔

● کام کر کے بھی دکھائیں اور پھر ان میں اعتماد پیدا کر کے تفویض امور کافن بھی سکھائیں۔

● اپنا بھی جائزہ لیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ بھی جائزے کا کوئی فورم بنائیں۔

● اچھی کارکردگی کو سراہنے کی عادت ڈالیں اور اپنے اچھے کام کرنے والے افراد کی سب کے سامنے تعریف کریں۔

● متاثرہ کا رکرداری والے افراد کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ ان کو اچھے الفاظ میں تنبیہ کریں۔

● تنبیہ میں اپنے ساتھی کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور ایسی بات نہ کریں جو دل بخوبی کا باعث ہو۔

□ نئی سوچ اور نئی فکر کے ساتھ تبدیلی لائیں۔

● اپنی سوچ میں تتوسع پیدا کریں۔

● اس کے لیے مطالعہ اور غور و فکر کریں۔

● اپنے افراد کا رہنمایی کی طرف سمجھائیں کہ یہ گھر کے حساب کی مانند ہے تاکہ

آپ کو ضروری اور غیر ضروری مصارف کا احساس ہو سکے۔
